

سوال

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام حجت کیوں مانی جاتی ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قول ، فعل ، تقریر ، اور صفت نقل کرنے کو حدیث کہا جاتا ہے ۔

حدیث یا تو قرآن مجید کے کسی حکم کی تاکید کرتی ہے جیسا کہ نماز ، روزہ ۔

یا پھر قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل جیسا کہ نماز میں رکعات کی تعداد ، اور زکاة کا نصاب ، اور حج کا طریقہ وغیرہ

-

یا پھر ایسے حکم کو بیان کرتی ہے جس سے قرآن مجید نے سکوت اختیار کیا ہو مثلاً عورت اور اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ سے اکھٹے نکاح کرنے کی حرمت (یعنی بیوی اور اس کی خالہ یا پھوپھی جمع کرنا حرام ہے) ۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور لوگوں کے لیے اسے بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا :

ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں ، شائد کہ وہ اس پر غور و فکر کریں النحل (44) ۔

اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

کہ نہ تو تمہارے ساتھی نے راہ گم کی ہے اور نہ ہی وہ ٹیڑھی راہ پر ہے ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں ، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے النجم (2 - 4) ۔

اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ کفر کی دعوت دیں ، انہیں جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈارنے والا بنایا اسی کے

متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں :

اے نبی ! یقیناً ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا ، خوشخبریاں سنانے والا ، آگاہ کرنے والا ، بنا کر بھیجا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے الاحزاب (45 - 46) ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی بھلائی اور خیر پر بہت زیادہ حریص تھے ، جو بھی خیر اور بھلائی کی بات تھی اسے اپنی امت تک پہنچایا اور جس میں شرو و نقصان تھا اس سے امت مسلمہ کو بچنے کا کہا ، اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں جنہیں تمہیں نقصان دینے والی بات نہایت گراں گزرتی ہے ، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں ، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں التوبة (128) ۔

پر نبی علیہ السلام خاص کر صرف اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا جاتا تھا ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ، اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے :

اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے الانبياء (107) ۔

توجب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ وحی کے مبلغ ہیں تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا واجب ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے :

جس نے بھی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے النساء (80) ۔

اور اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی نجات و کامیابی اور دنیا و آخرت کی سعادت کا راہ ہے ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی الاحزاب (71) ۔

توسب لوگوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے اس لیے کہ اسی میں ان کی فلاح و کامیابی ہے :

اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت تاکہ تم پر رحم کیا جائے آل عمران (132) ۔

تو اب جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی و معصیت کرے اس کا نقصان اور وبال اس

پر ہی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرسکتا ۔

فرمان باری تعالیٰ ہے :

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ایسے لوگوں کے لیے رسواکن عذاب ہے النساء (14) ۔

اور جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ کوئی فیصلہ کردیں تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے اختیار کرے یا چھوڑ دے بلکہ اس پر ایمان اور حق کی اطاعت واجب ہے ، اسی کے بارہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور کسی مومن مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو شخص بھی نافرمانی کرے گا وہ صریحا گمراہی میں ہے الاحزاب (36) ۔

اور بندے کا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ رکھے اور اس محبت کے لیے اطاعت لازمی ہے ۔

تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور اس کے گناہ معاف کر دے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے :

کہہ دیجئے ! اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہو تو میری اتباع و اطاعت کرو ، خود اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے آل عمران (31) ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف کلمات ہی نہیں جنہیں بار بار زبان پر لاکر محبت کا اظہار کیا جائے بلکہ یہ ایک عقیدہ اور منہج ہے جس کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور جو کچھ انہوں نے بتایا اس کی تصدیق اور جس سے روکا اور بچنے کا کہا ہے اس سے رکنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف مشروع طریقے سے کرنا ہے ۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کردی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی رسالت لوگوں تک کماحقہ پہنچا دی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرماتے ہوئے انکی روح قبض کر لی ۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک صاف شفاف دین پر چھوڑا اس کی رات بھی دن کی طرح روشن

ہے تو جو بھی اس راہ اور دین سے ہٹے گا وہ ہلاکت میں ہے ، اسی کا اشارہ کرتے ہوئے رب العزت کا فرمان ہے :
 آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا المائدة (3) -

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حفظ کیں ، پھر ان کے بعد سلف الصالح تشریف لائے اور انہوں نے یہ احادیث کتب میں مدون کر دیں جو کہ صحاح اور سنن اور مسانید کے نام سے پہچانی جاتی ہیں -

ان سب میں سے صحیح ترین صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں اور سنن اربعہ اور مسند امام احمد اور موطا امام مالک وغیرہ میں بھی احادیث صحیحہ موجود ہیں -

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین کو مکمل فرمادیا ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بھلائی اور خیر معلوم کی اسے اپنی امت تک پہنچا دیا اور جو بھی شرو و نقصان والی اشیاء کا ان کے پاس علم آیا اس سے اپنی امت کو بچنے کا حکم دیا ، تو اب جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی بدعت اور خرافات وغیرہ ایجاد کرتا ہے تو اس کا وہ کام مردود ہے مثلاً :

مردوں سے مانگنا ، اور قبروں کا طواف کرنا ، اور جنوں سے مدد مانگنا اور انہیں پکارنا ، اور اسی طرح اولیاء سے مدد طلب کرنا وغیرہ یہ سب کچھ غیر شرعی اور مردود فعل ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

(جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے) صحیح مسلم حدیث نمبر (1718) - .